



## Police Custody Officer (پولیس کسٹڈی آفیسرز) - معلوماتی پرچہ

وکتوریا پولیس اپنے عملے میں تہذیبی و نسلی تنوع کا عزم رکھتی ہے اور اس وقت پولیس کسٹڈی آفیسرز یعنی حراستی پولیس افسران کی بھرتی کر رہی ہے۔

PCOs کیلئے پولیس کی حراستی پالیسیوں اور ضابطہ کار پر عمل کرنا اور کمپیوٹر کے استعمال کی اچھی مہارت رکھنا بھی ضروری ہو گا۔ انہیں اچھے کردار اور شہرت کے حامل ہونے اور اس اہلیت کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہو گی کہ وہ اپنے ذاتی خیالات کو الگ رکھنے کے قابل ہیں تاکہ لوگوں کے بارے میں ذاتی خیالات کی بنیاد پر بری رائے قائم نہ کریں۔

وکتوریا پولیس ایسا ماحول فراہم کرتی ہے جس میں پختہ ذہن، لچکدار مزاج اور منصفانہ سوچ رکھنے والے لوگ پھل پھول سکتے ہیں۔ وکتوریا پولیس کے اہلکار کے طور پر آپ کو بہت اچھے فوائد حاصل ہوں گے جن میں شفٹ الاؤنس، بچ کی پیدائش پر ماں اور باپ کیلئے تنخواہ کے ساتھ رخصت بھی شامل ہے۔

پولیس کسٹڈی آفیسر (PCO) کے طور پر آپ کو ایک محرک، چیلنجنگ اور اطمینان بخش کیریئر ملتا ہے جس میں آپ زیر حراست افراد کے انتظام اور فلاح میں نہایت اہم کردار ادا کریں گے۔

PCO کا کام ان لوگوں کیلئے موزوں ہے جو ایک مستحکم کیریئر چاہتے ہوں اور جو شفٹوں میں کام کر سکتے ہوں۔ یہ بھاگ دوڑ طلب کرنے والا کام ہے اور کامیاب درخواست گزاروں کو اپنی طاقت اور حرکت کی اہلیت برقرار رکھنی پڑے گی۔ چونکہ PCOs کا بیشتر کام حراست میں موجود افراد کے ساتھ ہو گا، ان کیلئے پختہ ذہن، لچکدار مزاج اور بات چیت اور انسانوں کے ساتھ واسطے کی اچھی مہارتوں کا حامل ہونا ضروری ہو گا۔





## اس کردار کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟

- وکٹوریا پولیس کی حراست میں موجود افراد کے انتظام سے متعلق تمام فرائض ادا کرنا۔
- زیر حراست افراد، عمل اور ان کے ملاقاتیوں کی صحت، خیریت، حفاظت اور نگرانی یقینی بنانا۔
- زیر حراست افراد کیلئے انتظامی امور، ٹرانسپورٹ، فاصلاتی حاضری یا وڈیو لنکس کا بندوبست کرنا۔
- طے شدہ قوانین، پالیسیوں اور ضابطہ کار کے مطابق حراست کے تمام انتظامی امور انجام دینا جن میں معمول کی خط و کتابت تیار کرنا، حاضری کے رجسٹر بھرنا، رپورٹیں بنانا اور دوسرے انتظامی کام شامل ہیں۔
- انگلیوں کے نشانات لینا، ڈی این اے کا انتظام، فوٹو گرافی، خون میں الکحل یا منشیات کی موجودگی کے ٹیسٹ کرنا اور عدالت میں حسب ضرورت شہادت دینا۔

## افسران کو کن مقامات پر تعینات کیا جاتا ہے؟

Ballarat .۱	Bendigo .۱۲
Dandenong .۲	Swan Hill .۱۳
Heidelberg .۳	Mill Park .۱۴
Geelong .۴	Warrnambool .۱۵
Sunshine .۵	Morwell .۱۶
Broadmeadows .۶	Shepparton .۱۷
Frankston .۷	Wangaratta .۱۸
Mildura .۸	Bairnsdale .۱۹
Ringwood .۹	Horsham .۲۰
Moorabbin .۱۰	Sale .۲۱
Wodonga .۱۱	Melbourne West (CBD) .۲۲





## کیا میں درخواست دینے کیلئے اہل ہوں؟

- وکٹوریا پولیس کیلئے PCO کے طور پر کام کا اہل ہونے کیلئے آپ کا داخلے کے مندرجہ ذیل تقاضوں پر پورا اترنا لازمی ہے:
- ۱۸ سال سے اوپر عمر
- آسٹریلیا کا شہری یا مستقل رہائشی ہونا
- فل ڈرائیونگ لائسنس یا آزمائشی مدت کا ڈرائیونگ لائسنس رکھنا
- ۳۰ یا اس سے کم کا باڈی ماس انڈیکس (BMI)
- ٹریفک یا پارکنگ کے جرمانوں کے حوالے سے کوئی عدم تعميل شدہ وارنٹ، ادائیگی کے احکام یا ادائیگی کا پلان موجود نہ ہوں

## درخواست کی کارروائی کیسے ہوتی ہے؟

درخواست گزار کے طور پر آپ کو مندرجہ ذیل مراحل کامیابی سے پورے کرنے ہوں گے، قبل اس کے کہ آپ کو وکٹوریا پولیس میں ملازمت کیلئے منتخب کیا جائے:

- مرحلہ ۱:** کے ذریعے آن لائن درخواست جمع کرائیں [www.policecareer.vic.gov.au/pco](http://www.policecareer.vic.gov.au/pco)
- مرحلہ ۲:** پس منظر کی ابتدائی چھان بین مکمل کروائیں
- مرحلہ ۳:** جانچ کے دن میں شریک ہوں
- مرحلہ ۴:** نفسیاتی ٹیسٹ کروائیں
- مرحلہ ۵:** نفسیاتی سکریننگ کروائیں
- مرحلہ ۶:** طبی جانچ کروائیں
- مرحلہ ۷:** پس منظر کی جامع چھان بین مکمل کروائیں
- مرحلہ ۸:** فٹنیس ٹیسٹنگ کروائیں
- مرحلہ ۹:** پینل انٹرویو کروائیں
- مرحلہ ۱۰:** ملازمت کی پیشکش وصول کریں



VICTORIA POLICE

مزید معلومات کیلئے براہ مہربانی دیکھیئے  
[www.policecareer.vic.gov.au/pco](http://www.policecareer.vic.gov.au/pco)



## مجھ کیا تربیت ملے گی؟

• عہدیدار کو ادارے کے پیشہ ورانہ صحت و حفاظت کے تقاضے مکمل کرنے ہوں گے جن میں سازوسامان اور خطرناک کیمیائی مادوں کے استعمال کی مقامی سطح کی تربیت شامل ہو سکتی ہے۔

• یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے سے قانون کا علم حاصل ہو کیونکہ تربیت کے دوران آپ کو وہ کچھ سکھایا جائے گا جس کا علم آپ کیلئے ضروری ہے۔

• اس عہدے پر کام کرنے کیلئے اعلیٰ تعلیم ضروری نہیں ہے تاہم درخواست دینے کے وقت آپ کی عمر ۱۸ سال یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔

• PCOs کو دن، سہ پہر اور رات کی شفٹوں میں ڈیوٹیاں دی جائیں گی۔ ایک شفٹ کا وقت ۸،۰۶ گھنٹہ ہو گا اور اس میں آدھ گھنٹے کا کھانے کا وقفہ شامل ہو گا۔ مقام کے لحاظ سے کام کے آغاز اور اختتام کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں۔

• PCOs چھڑی، ہتھکڑیاں اور OC سپرے ساتھ رکھا کریں گے۔

PCOs کو آٹھ ہفتوں کا تربیتی کورس مکمل کرنا ہو گا جو Glen Waverly، میلبرن میں واقع پولیس اکیڈمی اور ان کے معینہ پولیس سٹیشن میں کرایا جائے گا۔ تربیت کے دوران آپ کو حراستی انتظام اور قیدیوں کی فلاح کا انتظام کرنا سکھایا جائے گا۔

وکتوریا پولیس اکیڈمی میں تربیت کڑی اور منظم ہوتی ہے۔ یہ جسمانی، تعلیمی اور ذہنی لحاظ سے چیلنجنگ بھی ہوتی ہے۔

### درخواست دینے سے پہلے مجھے کن دیگر اہم معلومات کو پیش نظر رکھنا چاہیئے؟

• درخواست گزار اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد تین مہینے کے آزمائشی عرصے میں کام کریں گے۔

• PCOs کیلئے فٹنیس کی صحتمندانہ سطح پر پورے اترنا اور اس کو برقرار رکھنا ضروری ہو گا۔ ملازمت کے تمام عرصے میں PCOs کو ششماہی فٹنیس ٹیسٹنگ میں شریک ہونا ہو گا۔

• درخواست گزاروں کو باقاعدگی سے منشیات اور الکحل کی ٹیسٹنگ کروانی ہو گی۔

## مزید معلومات؟

مزید معلومات کیلئے دیکھیں: <http://www.policecareer.vic.gov.au/pco>  
یا اپنا سوال اس پتے پر ای میل کریں: [pcoemployment@police.vic.gov.au](mailto:pcoemployment@police.vic.gov.au)

